

برائے فوری اجراء

سٹی کونسل نے برامپٹن کے پہلے آف گرڈ آرگینک فوڈ شیڈ کی منظوری دے دی ہے

برامپٹن، آن (5 مئی 2021) – آج، سٹی کونسل نے ایک خود پرور، باز افزائشی خوراک کے نظام، ایک آف گرڈ آرگینک فوڈ شیڈ کی منظوری دے دی، جو برامپٹن میں کئی خاندانوں کے لیے خوراک پیدا کرے گا۔ یہ فوڈ شیڈ ان گرمیوں سے شروع کرتے ہوئے چھ مہینوں کے ایک آزمائشی دور کے لیے 8220 مسیساگا روڈ پر واقع ہو گا اور برامپٹن فائر اسٹیشن 212 کی جانب سے معاونت یافتہ ہو گا۔

یہ آف گرڈ آرگینک فوڈ شیڈ نیچر بارمنی کی جانب سے فراہم کیا جائے گا اور یہ ایک صفر توانائی والا گرین ہاؤس ڈھانچہ ہو گا، جو فوڈ شیڈ میں فصلیں اگانے گا، جنہیں [2021 بیک یارڈ گارڈن پروگرام](#) کے حصے کے طور پر برامپٹن میں خاندانوں کو کھانا کھلانے کے لیے ریجنریشن آؤٹ ریچ کمیونٹی کو عطیہ کر دیا جائے گا۔

اس جدت پسند ٹیکنالوجی میں اس کا اپنا ایکو سسٹم شامل ہو گا، جو خوردنی قدرتی پھل اور سبزیاں اور یہاں تک کہ خودنی مچھلیاں پیدا کرنے کے لیے خودکار مٹی، ہائیڈرو پونکس اور ایکوا پونکس کا استعمال کرے گی۔ یہ شیڈ صفر ضیاع والا اور کاربن نیگیٹو ہو گا، قابل تجدید شمسی اور ہوائی توانائی سے چلے گا اور شدید ٹھنڈ کو برداشت کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

اس قابل استحکام اندرونی فارم میں ایک ٹیبیلٹ بھی شامل ہے، جس کے ساتھ کئی تعلیمی سرگرمیوں اور تجربات کا ایک مجموعہ اور تمام ضروری مواد موجود ہیں، تاکہ تمام عمر کے لوگوں کے لیے متعامل تعلیم کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔

برامپٹن کا کمیونٹی گارڈنز پروگرام [برامپٹن گرو گرین انوائرنمنٹل ماسٹر پلان](#) کے اہداف کو فروغ دیتا ہے، جس نے سٹی کے لیے ایک موقع کے طور پر شہری کاشتکاری کی نشاندہی کی ہے۔ برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے 2020 میں بیک یارڈ گارڈن پروگرام میں بھی شرکت کی تھی، جس میں ٹیم نے کمیونٹی میں بڑی تعداد میں فصلیں اگانیں اور ان کے عطیے میں مدد کی۔

اقتباسات

"برامپٹن سٹی کونسل نے برامپٹن کے پہلے آف گرڈ آرگینک فوڈ شیڈ کی منظوری دے دی ہے، جو برامپٹن فائر اسٹیشن 212 پر واقع ہو گا اور وہاں برامپٹن فائر کے عملے کی معاونت سے چلے گا۔ ہمیں برامپٹن میں استحکامیت کے نئے ماڈلز قائم کرنے پر فخر ہے، خاص طور پر وہ، جو براہ راست ہمارے رہائشیوں کو اور 2050 تک GHGs میں 80% کمی کے ہمارے سفر میں معاونت فراہم کرتے ہوں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن ایک ماحول دوست شہر ہے اور ہم اپنے رہائشیوں کے لیے خوراک کے تحفظ اور سیکورٹی کے جدت پسند سلوشنز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آف گرڈ آرگینک فوڈ شیڈ اپنی توانائی خود پیدا کرتا ہے، ضیاع سے آزاد نظام برقرار رکھتا ہے اور یہاں تک کہ کاربن قید کر کے تازہ آکسیجن جاری کرتا ہے۔ یہ شہری کاشتکاری میں ایک سنگ میل ہے اور ہم اس راستے پر رہنمائی میں مدد کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔"

- رووینا سیٹھوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ایک آف گرڈ آرگینک فوڈ شیڈ برامپٹن کے بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے حصے کے طور پر کئی رہائشیوں کو کووڈ-19 سے گزرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ یہ خود پرور، قدرتی طور پر خوراک اگانے کا ماڈل مقامی طور پر خوراک پیدا کرنے کی ضرورت، قدر اور طریقوں کو ظاہر کرتا ہے اور ایک زیادہ قابل استحکام مستقبل کے لیے ضروری ٹولز اور علم کے ساتھ ہمیں تقویت فراہم کرتا ہے۔"

- ٹوگ ویلینز، سٹی کونسلر، وارڈز 2 اور 6؛ چیئر، بیک یارڈ گارڈن پروگرام، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کا عملہ برامپٹن میں خوراک کی سیکورٹی اور ماحولیاتی استحکامیت کے مواقع کے لیے وقف ہے۔ برامپٹن فائر اسٹیشن 212 کے عملے کو آف گرڈ آرگینک فوڈ شیڈ کی معاونت کے لیے تربیت فراہم کی جائے گی، جو برامپٹن کے استحکامیت کے اہداف کو حاصل کرنے میں مدد دے گا۔"

- ٹیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"نیچر ہارمنی ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے، جو اس دنیا کو زیادہ مؤثر طور پر چلانے کے عمل کو فروغ، معاونت اور تقویت دینے پر مرکوز ہے۔ برامپٹن بیک یارڈ گارڈن پروگرام اور برامپٹن فائر کے ساتھ شراکت داری میں، یہ آف گرڈ آرگینک فوڈ شیڈ پراجیکٹ سٹی، کمیونٹیوں اور افراد کو قدرت اور ہمارے موجودہ کنزیومرسٹ ماڈل کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں دوبارہ سوچنے کی ترغیب دے کر قابل استحکام اور نو افزائشی اقدامات کو فروغ دیتا ہے۔"

- فل فنگ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، نیچر ہارمنی

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca